

دینی فرائض

کا  
جامع تصور

ڈاکٹر اسرار احمد

پبلشرز  
ایک اہل حق و سچ

تنظیمِ اسلامی

# فرائض دینی کا جامع تصور

بِسْمِ رَبِّ اَقَامْتِ دِيْنَ اَهْلِبَارِ دِيْنِ حَقِّ لِيَكُوْنَ الَّذِيْنَ كَرِهَ اللهُ اِعْلَامًا كَلِمَةً اَللّٰهُ

تیسری اور آخری جہت  
فرائض دینی کی بدترین سطح

نظام باطل کو پیسلج  
تصادم اور صبر و صبارت  
سکین، کمن، بروشس  
پہی جان دینے پر پوری آمادگی  
اور ضرورت ہر جہاد بالنتیفہ قتال فی سبیل اللہ  
بیعت سمیع و طاعة کی اساس پر منظم جماعت

## تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، شہادت علی الناس

دوسری جہت  
فرائض دینی کی  
دوسری سطح

جہاد بالقرآن  
تبلیغ و تعلیم قرآن اور  
بند از تبشیر اور تذکیر بالقرآن  
حکمت، موعظہ حسنہ اور جہاد حسن  
تینوں سطحوں پر  
تعلیمی اشاعتی اور تبلیغی — اور ایسے انجمنیں اور تنظیمیں

## اسلام، اطاعت، تقویٰ، عبادت

پہلی جہت  
فرائض دینی  
کی پہلی سطح

حج

روزہ

زکوٰۃ

نماز

نفس آزارہ کے خلاف  
شیطان اور اس کی زرتیت  
کے خلاف اور جوشے ہونے  
اعمال کے خلاف  
کشتن، پھینک، پھینک، قرآن  
جہاد بالقرآن  
صحبت صادقین

چار ستون  
دکری ستیت  
پانچ ارکان اسلام

سطح زہین

اَقْرَأْ بِاللِّسَانِ بِشَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ : قَانُونِ اِيْمَانِ

کسی

تَصَدِيقٌ بِالْقَلْبِ بِمَقْبُولِ حَقْمِ اِيْمَانِ حَقِيْقَتِي

زہین بنیاد

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اَشْرَفَتْ لَهُمْ رِبَاتِ اِيْمَانِ

# دینی فریضے

کا

# جامع تصور

ڈاکٹر اسرار احمد

امیو تنظیم اسلامی

کا ایک اہم خطاب

(نظر ثانی شدہ ایڈیشن)



ترتیب و تسوید

شیخ جمیل الرحمن / حافظ خالد محمود مختار



شائع کردہ

مکتبہ خدام القرآن لاہور

## عرض ناشر

یہ کتابچہ جیسا کہ ”پیش لفظ“ میں عرض کیا گیا ہے، امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے ۱۹۸۳ء کے ایک خطیب پر مشتمل ہے۔ ہمارے بزرگ رفیق کار محترم شیخ نبیل الرحمن نے افادہ عام کے خیال سے اس خطاب کو فی الفور ٹیپ کی ریل سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا اور کتابچے کی شکل میں طبع کروایا۔ محترم شیخ صاحب کی خواہش تھی کہ طباعت سے قبل امیر تنظیم خود اس پر نظر ثانی فرماتے اور اسکی نوک پلک سنوارتے، لیکن امیر محترم کی ہمہ پہلو مصروفیات کے باعث یہ ممکن نہ ہوا۔ گذشتہ آٹھ برسوں سے یہ کتابچہ اسی صورت میں طبع ہوتا رہا اور اس پر نظر ثانی کی نوبت نہ آسکی۔ اب الحمد للہ اکتوبر ۱۹۹۲ء میں اس کے ساتویں ایڈیشن کی طباعت کے موقع پر اس کتابچے کو بڑی عرق ریزی کے ساتھ نظر ثانی کے مرحلے سے گزارا گیا ہے اور جا بجا مناسب ذیلی سرخیوں کے اضافے سے نہ صرف یہ کہ اس کے حسن معنوی میں اضافہ ہو گیا ہے بلکہ نئی کمپیوٹر کتابت کے باعث اس کے حسن ظاہری میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ قارئین اس نظر ثانی شدہ ایڈیشن کی افادیت کو نمایاں طور پر محسوس کریں گے۔

۳۰ ستمبر ۱۹۹۲ء

اس کتابچے کی اشاعت و طباعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے

نام کتاب \_\_\_\_\_ دینی فرائض کا جامع تصور

طبع اول تا طبع چہارم (مئی 1984ء تا جنوری 2003ء) \_\_\_\_\_ 67200

طبع پانزدہم (فروری 2005ء) \_\_\_\_\_ 4400

ناشر \_\_\_\_\_ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت \_\_\_\_\_ 36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: 03-5869501

مطبع \_\_\_\_\_ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت (عام ایڈیشن) \_\_\_\_\_ 12 روپے

(اعلیٰ ایڈیشن) \_\_\_\_\_ 20 روپے

## ترتیب

- ☆ تمہید ۶
- انسانی عمل کے دو محرکات ۶
- میرا تصویرِ فرائضِ دینی ۸
- ☆ فرائضِ دینی اور ان کے لوازم ۹
- پہلا فریضہ — دین پر کار بند ہونا ۹
- دوسرا فریضہ — دین کو دوسروں تک پہنچانا ۱۶
- تیسرا فریضہ — دین کو قائم کرنا ۲۱
- ☆ فرائضِ دینی کے تین لوازم ۲۸
- پہلا لازمہ — جہاد ۲۸
- دوسرا لازمہ — التزامِ جماعت ۳۳
- تیسرا لازمہ — بیعت ۳۶

## پیش لفظ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کف میں اپنی کتاب میں ’قرآن مجید کا ایک وصف“ (تصرف الآیات) بیان کیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید پر صد فی صد ہی نہیں بلکہ ہزاروں کتاب صادق آتی ہے کہ ”اک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں“۔ قرآن حکیم اپنی دعوت کو اتنے مختلف اسالیب اور استدلال سے پیش کرتا ہے کہ اگر انسان مسلوب التوفیق ہی ہو گیا ہو تو دوسری بات ہے؛ ورنہ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اناہت اور تلاش حق کی جستجو ہو تو اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے: **اللَّهُ يُضَيِّقُ لِلْمَنِّ شَاءَ وَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ** ○ ”اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور اس کو (ضرور) ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف (ہدایت کیلئے) رجوع کرتا ہے۔“

قرآن مجید ہی کا یہ فیضان ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد امیر ”تنظیم اسلامی“ دعوت حق کو مختلف اسالیب، دلائل اور انداز سے پیش فرماتے رہتے ہیں۔ موصوف کا یہ خطاب اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اس خطاب کی تقریب یہ ہوئی کہ ۱۹۸۳ء کے اوائل میں تنظیم اسلامی کراچی نے جامع مسجد ناظم آباد، بلاک ۴، نزد ہادی مارکیٹ میں درس قرآن کا پانچ روزہ پروگرام ترتیب دیا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے قرآن حکیم کی دو سورتوں (سورۃ المائد اور سورۃ الصف) کا درس ان پانچ دنوں میں مکمل کیا۔ درس کی تکمیل کے متلاً بعد جمعہ کا دن تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں نہایت عام فہم لیکن موثر اسلوب کے ساتھ ”دینی فرائض کا جامع تصور“ کے موضوع پر تقریر فرمائی تھی جو کیسٹ سے منتقل کر کے معمولی حک و اضافہ کے بعد اس کتابچے کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی تحریر اور تقریر میں جو نمایاں فرق ہوتا ہے اسے جاننے والے بخوبی جانتے ہیں۔ خطاب چونکہ عموماً سہل ہوتا ہے لہذا اس سے عوام و خواص دونوں ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے توقع ہے کہ یہ خطاب قاری کو دینی فرائض کے جامع تصور کی تفہیم میں نہایت مدد ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ تادیر سلامت رکھے اور ان پر قرآن فہمی کی مزید ارزانی فرمائے۔ نیز تجدید دین و احیائے اسلام کے لئے موصوف جو عملی جدوجہد کر رہے ہیں اس کو دین و دنیا میں مشکور فرمائے۔

اس خطاب کی منتقلی میں جو صواب ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اگر خطا ہے تو اس کے لئے یہ عاجز بارگاہ رب العزت میں عفو و مغفرت کا طالب ہے۔

احقر

جمیل الرحمن

۱۸۔ مئی ۱۹۸۳ء

## دینی فرائض کا جامع تصور

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ  
فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا وَرَدَنِي سُورَةُ اِلِ عَمْرَانَ :

اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

وقال الله عز وجل في سورة الذاريات :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

وقال الله تبارك وسبحانه في سورة البقرة :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

وقال الله عز وجل في سورة الشورى :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ

عِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ط

صدق الله العظيم

رَبِّ الشَّرْحِ لِي صَدْرِي وَسَيَّرْ لِي أَمْرِي وَأَخْلَعْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يُفَقِّهُوا قَوْلِي

## تمہید

سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ اس موضوع یعنی ”دینی فرائض کا جامع تصور“ کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے۔ دیکھئے اگر کسی شخص کو ملازم رکھا جائے اور اسے اس کی ذمہ داریاں اور فرائض معین طور پر رگن کر ہتا دیئے جائیں کہ مثلاً یہ دس کام یا فرائض (Duties) ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں تو اب اگر بالفرض وہ شخص ان میں سے چار فرائض سرے سے بھول جائے اور اسے چھ ہی یاد رہیں، تو اس کے باوجود کہ وہ شخص پورے خلوص اور امکانی حد تک محنت سے ان چھ کاموں کو انجام دینے کی سعی کرے اور اس میں کامیاب بھی ہو، لیکن جو چار فرائض اسے یاد ہی نہیں رہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کو بجا نہیں لا سکتا اور کوئی عجب نہیں کہ یہی اہم ترین فرائض ہوں۔ اس لئے میں آج ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ دینی فرائض کا ایک جامع ترین تصور آپ کے سامنے پیش کروں۔

## انسانی عمل کے دو محرکات

بطور تمہید میں عرض کروں گا کہ انسان کے عمل میں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں محرک کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ ایک نیت اور دوسری فرائض کا صحیح شعور اور تصور۔ تو پہلی چیز ہے نیت و ارادہ — یعنی یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی توحید اور شرک کے اجتناب کے ساتھ مان لیا۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ کہ بعث بعد الموت اور محاسبہ اخروی پر بھی ہمارا کامل یقین ہے تو اس ایمان و تسلیم اور ایقان و تصدیق کا لازمی اور منطقی تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ملے وہ سراں کھولوں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ نیت اور ارادہ ہی نہ ہو تو آگے قدم اٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ گویا اعمال انسانیہ میں ”ارادہ“ کو بنیادی مقام حاصل ہوتا



آپ کو شاید معلوم ہو کہ اسی لفظ ارادہ سے اسم فاعل ”مرید“ بنتا ہے۔ ہمارے یہاں تزکیہ نفس کا جو نظام عرصہ دراز سے چلا آرہا ہے اس کا نقطہ آغاز ہی یہ لفظ ”مرید“ ہے۔ ”مرید“ سے مراد وہ فرد ہے جو اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ دین پر چلے گا۔ اس مقصد کے لئے وہ کسی ایسے شخص سے اپنا تعلق جوڑتا ہے جس پر اسے اعتماد ہو کہ یہ شخص مخلص ہے، دکاندار نہیں ہے۔ مزید برآں یہ اطمینان بھی ہو کہ یہ دین کو جاننے والا اور بذاتِ خود پابندِ شریعت اور متقی شخص ہے اور یہ کہ اس کی صحبت میں اس کو دین پر چلنے میں تقویت حاصل ہوگی۔ ارادہ تو اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لئے تقویت بھی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ کسی متقی و دین دار عالم کو اپنا مرشد تسلیم کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، یعنی بیعت کر کے یہ قول و قرار اور عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے اس مرشد کی ہدایات پر عمل پیرا ہوگا اور دین پر چلے گا۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ ”مرید“ وہ شخص ہے جو دین پر کاربند ہونے کے ارادے سے کسی صاحبِ حال سے تعلق استوار کرے۔ اور جس سے تعلق قائم کیا جائے وہ مزکی و مربی اور مرشد کہلاتا ہے، جس کے لئے فی الوقت ہمارے ہاں عام طور پر لفظ ”پیر“ مروج ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے اپنی بے عملیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جہاں دین کی بہت سی باتوں اور بہت سے کاموں کو بدنام کر رکھا ہے، وہاں پیری مریدی کے سلسلے کو بھی سخت بدنام کیا ہے۔ پھر واقعہ یہ ہے کہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں خالص دکانداری اور محض رسم بن کر رہ گیا ہے۔ اللہ ما شاء اللہ!

حاصل گفتگو یہ نکلا کہ پہلی ضروری چیز اپنا ارادہ ہے، لیکن اتنی ہی ضروری چیز یہ ہے کہ یہ صحیح تصور بھی موجود ہو کہ دین کے حقیقی فرائض کیا ہیں؟ اگر فرائض کا تصور محدود یا ناقص ہوگا تو جو چیزیں کسی کو معلوم ہیں ان پر تو وہ عمل کر لے گا لیکن جو چیزیں اسے معلوم ہی نہیں ہیں، ان پر ارادے کے باوجود وہ عمل کیسے کر سکے گا؟ چنانچہ میں آج کی اس صحبت میں اس دوسری بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ

ہمارے دینی فرائض کا صحیح اور جامع تصور کیا ہے، تاکہ پورے دین کا مکمل نقشہ ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم صحیح طور پر اپنا جائزہ لے سکیں کہ دین کے کتنے حصے پر ہم عمل پیرا ہیں اور کتنی چیزوں پر عمل نہیں کر رہے! اور کیسے ایسا تو نہیں ہے کہ جن چیزوں پر عمل ہم نے چھوڑ رکھا ہے وہی چیزیں دینی لحاظ سے اہم ترین ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مغز سرے سے موجود ہی نہ ہو اور ہم صرف چھلکا پکڑے بیٹھے ہوں! شاید آپ نے یہ لطیفہ سنا ہو کہ جب پہلے پہل چائے پورپ گئی تو وہاں لوگ یہ کرتے تھے کہ چائے ابال کر پانی پھینک دیتے تھے اور پتی کھاتے تھے۔ تو کیسے ہمارا حال یہ تو نہیں ہے کہ دین کی اصل ذمہ داریوں اور دین کے اصل فرائض سے صرف نظر ہو رہا ہو، وہ سرے سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہی نہ ہوں اور ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم دیندار ہیں اور پورے دین پر عمل پیرا ہیں! اس کا ازالہ اگر ہو گا تو اسی طرح کہ ہمارے سامنے دین کا پورا خاکہ اور دینی فرائض کا جامع تصور موجود ہو۔

## میرا تصورِ فرائضِ دینی

قرآن مجید اور سنتِ رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے محدود معروضی مطالعے سے اس ضمن میں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو فہم حاصل ہوا ہے اور جس پر میں اپنی استعداد کے مطابق اور امکان بھر عمل پیرا ہوں، میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی تعلیٰ اور ادعاء نہیں، صرف اظہارِ واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مطالعے اور فہم میں بھی کوئی کمی، نقص اور تقصیر ہو۔ کوئی بات آج میرے علم میں نہ ہو، کل آجائے۔ جب بھی وہ علم میں آئے گی ان شاء اللہ العزیز اسے بھی بیان کر دوں گا۔ لیکن آج کی تاریخ تک قرآن حکیم، سنت و سیرتِ نبویؐ اور سیرتِ صحابہؓ کے مطالعے سے اور اس امت کی پوری تاریخ پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دینی فرائض کا جو صحیح و جامع تصور میرے سامنے آیا ہے، اس کو میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔

## فرائضِ دینی اور ان کے لوازم

اس ضمن میں تین باتیں تو بنیادی و اساسی ہیں اور تین ہی ان کے لوازم ہیں۔ یہ کل چھ باتیں ہوں گی — تین بنیادی و اساسی باتوں کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ ابتداءً بھاری بھر کم اصطلاحات سے ہٹ کر ان کو عام فہم انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس میں شک نہیں کہ اصطلاحات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ہر علم اور ہر فن کا اصل اور حقیقی فہم انہی اصطلاحات کے حوالے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ فزکس نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کی گرفت میں اس کی بنیادی اصطلاحات (Basic Terminologies) نہ آجائیں۔ اسی طرح ہمارے دین کی بھی اصطلاحات ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ان اصطلاحات سے ذرا ہٹ کر بات اصولاً سمجھ لی جائے۔

ان تین بنیادی و اساسی باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود دین پر عمل پیرا ہوں، اس پر کاربند ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دین کو پھیلائیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ ہم دین کو قائم کریں۔ یہ ہیں تین بنیادی و اساسی باتیں۔ اب ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ بھی سمجھ لیجئے۔

پہلا فریضہ — دین پر کاربند ہونا

پہلی بات کے لئے اب دینی اصطلاحات نوٹ کیجئے۔ تھوڑے سے فرق سے اس کے لئے چار اصطلاحات ہیں: اسلام، اطاعت، تقویٰ اور عبادت۔

(۱) اسلام: سب سے پہلی اصطلاح خود ”اسلام“ ہے۔ اسلام کا معنی ہے گردن نمادن۔ سر تسلیم خم کر دینا۔ انگریزی زبان میں اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ To give up resistance اور To surrender۔ مفہوم یہ ہوا کہ سر جھکاؤ، سر تسلیم خم کرو اور جو بھی حکم ملے اسے بلا چون و چرا قبول کرو۔ اس رویے کا نام ہے اسلام — اور اس

”اسلام“ کے لئے قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ:

لَا يَهَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا اَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً (البقرہ: ۲۰۸)

”اے ایمان لانے والو! تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔“

اس میں داخلہ جزوی طور پر نہیں ہو سکتا کہ کچھ احکام پر تو سر تسلیم خم ہے اور کچھ احکام پر عمل کرنے سے انکار و اعراض، سرتابی اور سرکشی!۔۔۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہاں تو اصول یہ ہے کہ ماننا ہے تو پورا مانو، ورنہ چھوڑو اور دفع ہو جاؤ۔ (Take it all or leave it all)۔۔۔ یہاں بیچ بیچ کی بات نہیں چلے گی۔

(۲) اطاعت: یہ اسی طرز عمل کے لئے دوسری اصطلاح ہے۔ اب معاملہ ذرا آگے بڑھ گیا ہے۔ لفظ اسلام میں تو مقاومت و مخالفت (resistance) ترک کر کے خود کو حوالے (surrender) کر دینے کا مفہوم تھا، جبکہ اطاعت کا لفظ ”طوع“ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے دلی آمادگی۔ اردو میں ہم ”بطوعِ خاطر“ کے الفاظ بولتے اور لکھتے ہیں۔ گویا دلی آمادگی کے ساتھ فرماں برداری قبول کر لینے کے رویے کا نام اطاعت ہے۔ اور اس کے لئے اصول یہ ہے:

وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ

الْمُبِينُ (التخاین: ۱۳)

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور

اگر تم روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے واضح طور پر

(ہدایات و تعلیمات ربانی) پہنچانے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے!“

یہاں بھی وہی انداز ہے جو میں اسلام کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، یعنی یہاں بھی ”All or none Law“ کا فرما ہے۔ ہمارے نبیؐ کے ذمہ پہنچانا تھا سو انہوں نے پہنچا دیا۔ اب تم اپنا رخ کسی اور طرف کرنا چاہتے ہو، اس دعوت سے اعراض اختیار کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی اس سرتابی و سرکشی کے خود ذمہ دار ہو گے۔ تو اسلام ”اَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً“ کے تقاضے اور اطاعت کے مطالبے کے ساتھ مطلوب ہے۔ پھر یہ

اطاعت بھی ہمہ تن اور ہمہ جہت درکار ہوگی۔ یہاں بھی یہ نہیں ہوگا کہ کچھ حکم مانیں گے اور کچھ حکم نہیں مانیں گے۔

(۳) تقویٰ: اس ضمن میں یہ تیسری اصطلاح ہے۔ اسلام اور اطاعت انسان کے مثبت رویے اور طرزِ عمل کے مظاہر ہیں۔ ان ہی کو منفی اسلوب سے بیان کیا جائے گا تو وہ ہوگا ”تقویٰ“۔ اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اس کی نافرمانی سے احتراز کرنا، اس کی ناراضگی کا خوف رکھنا، اس کی سزا سے ڈرنا، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کے لئے تراجم میں ”پرہیزگاری“ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ”ڈر“ بھی، لیکن کسی اصطلاح کے ایک لفظ میں ترجمہ سے اس کا صحیح اور مکمل مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا:

لَا يَهَى الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  
 ”اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے۔“

اور تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔“

سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں سلبی رویہ ”تقویٰ“ اور مثبت رویہ ”اسلام“ دونوں کا ذکر نہایت جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ (آیت ۱۰۲)

(۴) عبادت: اس ضمن میں یہ چوتھی اصطلاح ہمہ گیر اور جامع ترین بلکہ اصل اصطلاح ہے۔ یہاں بات اور آگے بڑھی۔ دینی اعتبار سے لفظ عبادت کا اصطلاحی مفہوم ہوگا ”کسی کی محبت سے سرشار ہو کر ہمہ تن ہمہ وجہ اور ہمہ وقت اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا“۔ قرآن حکیم میں انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ الذاریات میں الفاظ وارد ہوئے ہیں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○ (آیت ۵۶)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ میری بندگی

کریں۔“

گویا انسان کا مقصد حیات ہی بندگی ہے، غایت تخلیق ہی بندگی ہے۔

”عبادت“ کے مفہیم و معانی اور متقنیات و مقدرات پر اس سے قبل بارہا گفتگو ہوئی ہے، آج ان سب کو جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عربی کے لفظ عبادت کا مفہوم فارسی کے دو الفاظ کو جو اردو میں بھی مستعمل ہیں، جمع کر کے ادا کیا جاسکتا ہے۔ وہ دو الفاظ ہیں بندگی اور پرستش۔ بندگی میں اطاعت کا پہلو ہے اور پرستش میں محبت کا! بندہ کے معنی ہیں غلام — اور غلام ہمہ وقت اور ہمہ تن غلام ہوتا ہے۔ غلامی اور ملازمت میں یہی تو فرق ہے کہ ملازمت کسی معین کام کے لئے ہوتی ہے۔ جو شخص مثلاً جھاڑو دینے پر ملازم ہے وہ جھاڑو ہی دے گا، کوئی اور کام تو نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو باورچی کی حیثیت سے ملازم ہے وہ آپ کے گھر کا فرش تو صاف نہیں کرے گا۔ پھر ملازمت معین وقت کے لئے ہوتی ہے۔ ملازم سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اسے چار گھنٹے کام کرنا ہے یا چھ اور آٹھ گھنٹے۔ اس کے بعد وہ آپ کا ملازم نہیں۔ لیکن غلامی یا بندگی ہمہ وقت اور ہمہ تن ہوتی ہے۔ شیخ سعیدیؒ نے بہت خوب صورتی سے شعر کے پیرائے میں اس مفہوم کی ترجمانی کی ہے کہ۔

زندگی آمد برائے بندگی      زندگی بے بندگی شرمندگی

پس ذہن میں رکھئے کہ بندگی کے معنی ہیں ہمہ وقت، ہمہ تن اور ہمہ وجوہ اطاعت۔ لیکن محض بندگی یا غلامی ”عبادت“ نہیں ہے جب تک کہ اس میں پرستش شامل نہ ہو۔ پرستش میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ زر پرست وہ ہے جس کو مال سے انتہائی محبت ہو۔ وطن پرست، قوم پرست اور شہرت پرست جیسے الفاظ ہمارے ہاں کثرت سے مستعمل ہیں۔ پرستش اور پرستاری ہمارے جانے پہچانے الفاظ ہیں۔ ”پرستار“ ہم بولتے ہیں ”انتہائی محبت کرنے والے“ کے معنی و مفہوم میں۔ چنانچہ عبادت کا مفہوم ہوگا اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش۔

جزوی اطاعت قابل قبول نہیں: یہ چار اصطلاحات ہیں جن سے دین کا پہلا اور بنیادی تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں اصل شے جو سمجھنے کی

ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں لانے کا نام بندگی ہے۔ اسلام میں جزوی اطاعت کی مطلقاً گنجائش نہیں ہے، اس کا مطالبہ کلی اطاعت ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں یعنی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً۔ ایک دوسری آیت اور سن لیجئے جس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس میں خطاب یہود سے ہے، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوئی۔ یہود کو قرآن نے امت مسلمہ کے لئے نشانِ عبرت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر امت مسلمہ بھی یہ روش اختیار کرتی ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں یہود کے حوالے سے کیا گیا ہے تو پھر ان کے لئے بھی وہی سزا ہوگی جس کے مستحق یہود قرار دئے گئے تھے۔ فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا بَعْضُ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُؤْنَ بِبَعْضِهَا فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ لِي الْعِوَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَهْدَىٰ الْأَعْدَاءِ  
وَمَا لِلَّهِ بِغَالِبٍ عَلَيْهِمَّا تَعْمَلُونَ ○ (البقرة: ۸۵)

”کیا تم (ہماری) کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔“

یہ وعید اس لئے ہے کہ یہ جو طرزِ عمل ہے کہ کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا تو اس کے ڈانڈے در حقیقت منافقت سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ دو عملی ہے، دو رنگی ہے، یہ دو رخا کردار ہے، جبکہ اللہ کو یک رنگی درکار ہے: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ پس دو رنگی منافقت ہے اور منافقت وہ روگ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے صراحت کی ہے کہ

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي النَّارِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَدَ لَهُمْ نَصِيرًا  
(النساء: ۱۳۵)

”منافق جنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے اور وہ اپنے لئے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔“

جن حضرات کو بھی قرآن مجید سے تھوڑا بہت شغف ہے، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کافروں پر اتنا نہیں بھڑکتا جتنا منافقوں پر بھڑکتا ہے۔ سورۃ الصف میں ہم نے ان دو آیات کا مطالعہ بھی کیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ  
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ○ (آیات ۳۲)

”اے اہل ایمان! وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ کے

نزدیک سخت بیزاری پیدا کرنے والی ہے کہ تم جو کہو اس کو کرو نہیں!“

ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم — اور مسلم کا معنی ہے تابع فرمان۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو اٹھا کر پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا معنی ہے غلام۔ اس حیثیت سے ہمیں اللہ کے تمام احکام ماننے چاہئیں، ان پر عمل کرنا چاہئے۔ جس کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے، اسے ترک کرنا چاہئے اور جن چیزوں کو واجب اور فرض کیا ہے ان کو ادا کرنا چاہئے۔ اگر ہم اللہ کے ان احکام کو جو ہمیں پسند نہ ہوں، پس پشت ڈال دیں تو ہم پر یہ بات بالکل صادق آئے گی کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ !!

ارکان اسلام اور ان کی اہمیت : ہماری اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ دین کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا اسلام پر کار بند ہونا اور عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے لئے اصطلاحات چار ہیں : (۱) اسلام (۲) اطاعت (۳) تقویٰ (۴) عبادت۔ ان میں جامع ترین اصطلاح عبادت ہے جس کا مفہوم ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ جہت بندگی اور پرستش ہے، یعنی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کلی اطاعت! — اب



میں چاہوں گا کہ ضمیمہ (Appendix) کی حیثیت سے اس کے ساتھ یہ بات جوڑ لیجئے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لئے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ۔

چوں می گویم مسلمانم بہ لرزم کہ دائم مشکلات لا الہ را

یعنی میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کہنے سے کیا لازم آتا ہے! جو اس کی حقیقت سے واقف نہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جن کو اس کلمے کے تقاضوں اور مطالبوں کا علم ہے وہ تو واقعہً یہ کلمہ زبان سے ادا کرتے ہوئے کانپ اٹھتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اس مشکل کو آسان کرنے کے لئے چار عبادات عطا فرمادیں، جنہیں ارکانِ اسلام بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٍ  
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآتِ  
الزَّكَاةَ وَحُجِّجِ الْبَيْتَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ — (متفق عليه)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

ہر شخص شہادتین کی ادائیگی سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ گویا بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ عملی ستون چار ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج بیت اللہ اور رمضان کے روزے۔ ان ہی کو ہم ”عبادات“ کہہ دیتے ہیں، اگرچہ پورے قرآن مجید میں ان کے لئے لفظ ”عبادت“ کہیں نہیں آیا۔ عبادت کا لفظ اسی مفہوم میں آیا ہے جس کی تشریح میں نے کی ہے۔ یعنی یہ کہ انسان ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہت، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی بندگی اور پرستش کرے۔ لیکن یہ ”عبادات“ اس فریضہ عبادتِ رب

کے لئے انسان کو تیار کرتی ہیں اور اس راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اسکی ممدو معاون ہوتی ہیں۔ چنانچہ نماز کا نظام اس لئے عطا ہوا کہ دن میں پانچ مرتبہ اپنی مصروفیات سے نکلو اور اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے قول و قرار ”إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُوكَ إِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ“ کی تجدید کرو اور اپنے ایمان کو تازہ رکھو لہذا فرمایا گیا: اِقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لئے! کہیں مصروفیات میں گم ہو کر اپنے رب کو بھول نہ جاؤ۔ زکوٰۃ کی عبادت اس لئے مرحمت فرمائی ہے کہ مال کی محبت کو دل سے کھرچا جاسکے، جو بڑی تباہ کن شے ہے اور سو امراض کا ایک مرض ہے۔ روزہ اس لئے فرض ہوا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ نفس کا گھوڑا بڑا منہ زور ہے، اس کو لگام دینے اور قابو میں رکھنے کی روزوں کے ذریعے تربیت حاصل ہو جائے اور اس کے بے محابا تقاضوں سے بچا جاسکے۔ اور حج کے اندر یہ تمام برکات جمع کر دی گئیں۔ اس میں ذکر بھی ہے، طواف بھی ہے۔ اس میں احرام کی پابندیاں بھی ہیں جو روزے سے مشابہ ہیں۔ اس میں پیسے کا خرچ بھی ہے جو زکوٰۃ کے مشابہ ہے۔ تو یہ چار ارکان اسلام یا چار عبادات اس لئے فرض کی گئیں تاکہ اسلام کی چھت ان ارکان یعنی ستونوں پر استوار ہو جائے۔ یہ ارکان اسلام عبادتِ کُلی کے لئے سہارے اور support کا کام انجام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ تسہیل فرمائی ہے اور ہمارے لئے یہ آسانی فراہم فرمائی ہے۔ یہاں پہلی بات سے متعلق گفتگو ختم ہوئی۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف۔

### دوسرا فریضہ — دین کو دوسروں تک پہنچانا

میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا دوسرا فرض اور ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اس پر خود عمل پیرا ہوں، اس پر کار بند ہوں۔ لیکن دوسرا فرض اور دوسری ذمہ داری اسلام کو پھیلانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ذمہ داری کے لئے بھی کئی اصطلاحات ہیں، لیکن چار کو ضرور ذہن نشین کر لیں۔

(۱) تبلیغ: یعنی پہنچانا۔ دوسروں تک پہنچائیں گے تو اسلام پھیلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا:

لَا يَهَيَّا اللَّهُ مَوْلًا بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدہ: ۶۷)

”اے رسول! پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آهَاتٍ ”پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت“۔ حجۃ الوداع میں آپ نے یہ فرما کر تبلیغ کی ذمہ داری تا قیام قیامت امت کے سپرد فرمادی کہ فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ ”اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو موجود نہیں ہیں۔“

(۲) دعوت: یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا لِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْجِدَّةُ: (۳۳)

”اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔“

اور:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل: ۱۲۵)

”پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے

ساتھ اور ان ”کج بحثوں“ سے مجادلہ کرو اس طور پر جو بہت عمدہ ہو۔“

(۳) امر بالمعروف ونہی عن المنکر: یہ اصطلاح بڑی اہم ہے۔ امر بالمعروف کا

مطلب ہے نیکی کا پرچار، نیکی کی تلقین، نیکی کا حکم۔ اور نہی عن المنکر سے مراد ہے بدی سے، برائی سے لوگوں کو روکنا، بدی اور برائی کی اشاعت کے آڑے آنا۔ اور اگر قوت و طاقت میسر ہو تو بدی اور برائی کو بزور روکنا۔ اس کے لئے حدیث میں یہ الفاظ

وارد ہوئے ہیں:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدُهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ

فَقِيلَ لَهُ وَذَلِكَ أَفْعَفُ الْإِيمَانِ (رواہ مسلم: عن ابی سعید الخدریؓ)

”تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے (یعنی طاقت سے) بدلے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے (یعنی تلقین و نصیحت سے اس برائی کو روکے)۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

یعنی کم از کم دل میں کڑھن تو ہو۔ اگر یہ کڑھن بھی نہ ہو تو اس کیفیت کے لیے دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں:

وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خُرْدٍ

”اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں!“

یعنی تم بدی کو دیکھو، منکر کو دیکھو، اور تمہارے احساسات پر جوں بھی نہ ریگنے پائے۔ برائی کو دیکھتے ہوئے گزر جاؤ لیکن یہ صدمہ بھی نہ ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو جان لو کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں موجود نہیں۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ حقیقی مفتی، اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ ان کا فتویٰ کون رد کرے گا اور اگر رد کرے گا تو کیا ایمان سلامت رہ جائے گا؟

(۴) شہادت علی الناس: یہ چوتھی اصطلاح جامع ترین ہے۔ شہادت علی الناس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر حجت قائم کر دینا تاکہ قیامت کے دن عدالتِ خداوندی میں گواہی دے سکو اور testify کر سکو کہ پروردگار! ہم نے تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ یہ وہ اصطلاح ہے کہ یہاں آکر تبلیغ و دعوت کا تعلق کارِ رسالت سے جا کر جڑ جائے گا۔ رسول کیوں بھیجے گئے! اس کو سورۃ النساء کی آیت نمبر ۴۱ سے سمجھئے جہاں فرمایا:

لَتَكْفُرَ إِذَا جَنَّاتٍ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ يَشْهَدُونَ جَنَّتْ بِكُمْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَاهِدًا

”اُس دن کیا حال ہو گا جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور

اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔“

کیوں؟ اس لئے کہ رسول یہ گواہی دیں گے کہ اے رب! میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب اپنے اعمال و افعال کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں — اب بتائیے کہ یہ گواہی ہمارے حق میں جائے گی یا خلاف؟ یہ گواہی خلاف جارہی ہے۔ عدالتِ خداوندی میں رسول دراصل استغاثہ کے گواہ ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار! میں نے تیرا پیغام بے کم و کاست ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ تیرا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچا کر ان پر حجت قائم کریں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا کہ ہم نے جو تمہیں امتِ وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے تو یہ اسی فریضہ شہادت علی الناس کی ادائیگی کے لئے ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتُكُونَ  
الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (آیت: ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت (بہترین امت) بنایا، تاکہ تم

گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔“

عبادتِ اب کے بعد شہادت علی الناس کی یہ دوسری اہم ذمہ داری ہے جو امت کے سپرد کی گئی۔ اس کی نزاکت کو جان لیجئے۔ اگر رسول بالفرض اللہ کا پیغام نہ پہنچاتے تو اللہ کے ہاں وہ مسئول اور ذمہ دار ہوتے! انہوں نے پہنچا دیا لہذا وہ بری ہو گئے اور باقی دنیا کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے حوالے کر کے تشریف لے گئے۔ اس لئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، صرف عرب کے لئے تو نہیں۔ ازروئے الفاظِ قرآنی: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا) اور قُلْ نَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف) اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء)۔ باقی دنیا کو کون پہنچائے گا؟ اس کے متعلق میں عرض کر چکا کہ حجۃ الوداع میں آل حضورؐ نے فرمایا کہ اب یہ کام تمہارے ذمے ہے: فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ میں نے پہنچایا تمہیں، اب تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں نہیں ہیں۔

یہاں یہ بات مزید سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اُس وقت کی دنیا والوں کا معاملہ نہیں تھا۔ اب تو دائمی رسالتِ محمدی کا دور ہے (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام)۔ اب تا قیام قیامت بنی نوع انسان کے لئے شہادتِ علی الناس کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ یہ ذمہ داری امتِ محمدی کی ہے (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام)۔ اگر امت یہ فریضہ ادا نہیں کرتی تو جان لیجئے کہ دنیا کی گمراہی کا وبال اس کے سر آئے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضورؐ کا امتی ہونے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کریڈٹ مل جائے گا! میں آپ کو دو سرا رخ دکھا رہا ہوں۔ یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اسے ادا نہیں کرتے تو دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال بھی آپ کے ذمہ آئے گا۔ بنی نوع انسان عدالتِ اخروی میں یہ عذر پیش کرنے میں بڑی حد تک حق بجانب ہوں گے کہ اے اللہ! ان کے پاس تیری آخری اور مکمل کتاب تھی، ان کے پاس تیرا دین تھا، یہ تیری شریعت کے علمبردار تھے، یہ تیرے آخری نبی اور رسول کے امتی تھے، انہوں نے اس دین کو نہ ہم تک پہنچایا اور نہ خود اس پر عمل کیا۔ یہ تیری آخری کتاب اور آخری نبی کی تعلیمات پر خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے۔

میں آپ کی نصح و خیر خواہی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا اگر میں آپ کو متنبہ نہ کر دوں کہ اگر آپ کا طرز عمل یہ ہو گا تو آخرت میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ خدا راجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں جب ہم سے یہ سوال ہو گا کہ تم ہمارے آخری نبی و رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، تمہارے پاس ہمارا دین تھا، تم حاملِ قرآن تھے، ہم نے چینوں اور امریکیوں کو اپنا دین نہیں دیا تھا، بلکہ اس کا وارث تم کو بنایا تھا اور یہ تمہاری ذمہ داری لگائی تھی کہ ان تک ہمارا دین پہنچاؤ۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روسیوں میں مبعوث نہیں کیا تھا، ان تک پہنچانا تمہارے ذمے تھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہو گا؟ دو سروں تک دین نہ پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہوگی یا نہیں؟ تو یہ ہے دوسری ذمہ داری جسے میں نے چار اصطلاحات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں تک تو

کیا پہنچائیں گے، آج ہم خود محتاج ہیں کہ صحیح دین ہم تک پہنچے۔ ہم تو الا ماشاء اللہ پیدائشی طور پر (By Birth) اور نام کے مسلمان ہیں کہ علامہ اقبال کے بقول:

یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو!  
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟

### تیسرا فریضہ — دین کو قائم کرنا

اب آئیے تیسری ذمہ داری کی طرف — یعنی یہ کہ دین کو قائم کیا جائے۔ ایک ہے تبلیغ و دعوت، یعنی دین کو پھیلانا، اسے دوسروں تک پہنچانا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اور ایک ہے اسے قائم و غالب کرنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام اگر ایک مکمل نظام حیات ہے، جیسا کہ فی الواقع وہ ہے (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) تو اسے بالفعل قائم کیا جانا چاہئے۔ ہم یہ بات بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں کہ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آج پاکستان میں شاید ہی کوئی پڑھا لکھا شخص ایسا ہو جو یہ بات نہ جانتا ہو اور نہ کہتا ہو۔ یہ فکر بڑا عام ہے۔ کم از کم ہمارے درس و خطابات کے سامعین اور ہمارے لٹریچر کے قارئین میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اس بات کو جانتا نہ ہو۔ تو اگر یہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے تو اس کو قائم کیوں نہیں کرتے! یہ صرف تبلیغ و تلقین کی خاطر، یا محض تحقیقی مقالے لکھنے اور چھاپنے کی غرض سے، یا مدح سرائی کرنے اور قصیدے کہنے کے لئے تو نہیں ہے۔ نظام اگر بالفعل قائم ہو تو اسے نظام کہا جائے گا، ورنہ وہ نظام ہے ہی نہیں۔ پھر تو وہ محض ایک Utopia یعنی ایک خیالی دنیا ہے یا ایک ایسا نظریہ جس کا عمل کی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو!

اس تیسری ذمہ داری کے لئے قرآن حکیم میں ہمیں چار اصطلاحات ملتی ہیں،

جن میں سے دو کئی سورتوں میں وارد ہوئی ہیں اور دو مدنی سورتوں میں۔

(۱) تکبیر رب: یہ اصطلاح کئی سورتوں میں سے سورۃ المدثر میں آئی ہے، جہاں

فرمایا گیا: **وَرَبِّكَ فَكْبِرْ** ”اور اپنے رب کو بڑا کرو!“ آپ شاید حیران ہوں کہ میں نے یہ کیا ترجمہ کیا ہے! — تو جان لیجئے کہ تکبیر کا لفظی معنی ہے کسی شے کو بڑا کرنا۔ تصغیر کا معنی ہے کسی شے کو چھوٹا کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کو بڑا کرنا چہ معنی دارو؟ وہ تو بذاتہ بڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا والے اس کی بڑائی کو عملاً تسلیم نہیں کر رہے۔ چنانچہ تکبیر رب سے مراد ہے اس کی بڑائی کو منوانا اسے تسلیم کرانا اور تشریحی معاملات میں اسی کے حکم کی تنفیذ کرنا۔ جیسا کہ فرمایا گیا: **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ** — اور بقول علامہ اقبال۔

سروری زیبا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے  
حکمران ہے اک وہی باقی بتانِ آزری!

غور کیجئے کہ اس لحاظ سے تو وہ کہیں بڑا نظر نہیں آتا! بڑے تو ہم بنے بیٹھے ہیں۔ کیا آج ہمارا طرز عمل یہی نہیں ہے کہ حکم تو بس ہمارا چلے گا، ہم نہیں جانتے کہ کون اللہ ہے، کون نہیں! بتائیے، آج پوری دنیا کا یہ رویہ ہے کہ نہیں؟ ہم اذنان میں کہہ دیتے ہیں ”اللہ اکبر“۔ جلسوں اور جلوسوں میں ”نعرۂ تکبیر“ کے جواب میں فلک شکاف انداز میں کہہ دیتے ہیں ”اللہ اکبر“۔ لیکن کہنے کو جتنا چاہیں کہہ لیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، حقیقت میں اللہ کہاں بڑا ہے؟ اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی نظام حیات میں تو بالفعل کہیں بھی نافذ نہیں۔ حالانکہ ”تکبیر رب“ کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ نظام قائم کیا جائے جس میں اللہ کی حاکمیتِ مطلقہ (Absolute Sovereignty) کو تسلیم کیا جائے، مانا جائے کہ آخری اختیار اس کا ہے اور آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نظام قائم کرو گے تو تکبیر رب کا تقاضا پورا ہو گا۔

دیکھئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلا حکم ملا: ”اقْرَأْ“۔ پہلی وحی میں تبلیغ اور دعوت کا کوئی ذکر نہیں۔ ”اقْرَأْ“ دو مرتبہ آیا:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اقْرَأْ وَرَبُّكَ  
الْأَكْرَمُ ○ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○ (العلق آتا ۵)



دوسری وحی سورۃ المدثر ہے۔ وہاں باقاعدہ خطاب سے بات شروع ہوئی: **فَاٰتٰهَا الْمُذْتَرَّ!** ”اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے!“۔۔۔ خطاب کے بعد پہلا حکم ملا: **قُمْ لَقَدْ زُوِّ** ”کھڑے ہو جاؤ“ کمر بستہ ہو جاؤ، مستعد ہو کر اپنا فرض منصبی ادا کرو! دو کام کرو۔ انذار اور تکبیر رب!۔۔۔ بنی نوع انسان کو خیردار اور آگاہ کرو، نیند کے ماتوں کو جگاؤ کہ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد آئے گی۔ **وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَعْبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ اِنَّ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ** ○ (العنکبوت) کہ اے لوگو! اچھی طرح جان لو، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور بس ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، اور اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش لوگوں کو سمجھ آجائے! اور یہ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن سب کو اپنے رب کے حضور میں جواب دہی کے لئے لانا کھڑے ہونا ہوگا۔ **اَلَا يٰظَنُّ اَوْ لَيُكْفَرْنَ اَنْهُمْ مَّبْعُوْنَ** ○ **لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ** ○ **يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ** ○ ”کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن (یعنی قیامت کے روز) اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب پوری نوع انسانی اس کائنات کے مالک کے سامنے (جواب دہی کے لئے) کھڑی ہوگی۔“۔ یہ انسان اس زعم میں مبتلا نہ رہے کہ یہ محض ڈراوا ہے۔ یہ دن آکر رہے گا اور یہی اصل ہارجیت کا دن ہوگا: **يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّنٰاِيْنِ**۔۔۔ یہ انذار ہے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے۔ لیکن جانا کہ ہر ہے، آخری منزل کون سی ہے؟ اس کا تعین اگلی آیت میں کر دیا گیا: **وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ** یعنی وہ منزل ہے تکبیر رب! اور آپ غور کیجئے، تیس سال میں آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر رب فرمادی کہ نہیں!۔۔۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب میں آپ نے وہ نظام قائم فرما دیا جس میں اختیار اعلیٰ (Supreme Authority) اور حاکمیت مطلقہ کا مالک فقط اللہ عزوجل ہی کو تسلیم کیا گیا تھا۔

خیال رہے کہ تکبیر رب کی ذمہ داری آنحضور کو مرتبہ رسالت پر مامور ہونے

کے وقت ہی سوچ دی گئی تھی۔ یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے اور مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ پہلی وحی یعنی سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات سے آنحضورؐ کی نبوت کا اور دوسری وحی یعنی سورۃ المدثر کی ابتدائی سات آیات سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

(۲) اقامتِ دین: اسی ذمہ داری کے لئے دوسری اصطلاح اقامتِ دین ہے جو ایک دوسری مکی سورت سورۃ الشوریٰ میں وارد ہوئی۔ فرمایا گیا:

أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (آیت ۱۳)

”دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑو۔“

قائم کون سی چیز کو کہتے ہیں؟ اس کو جو کھڑی ہو۔ زمین پر پڑی ہوئی چیز تو قائم نہیں کہلاتی۔ کوئی چیز گر جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو قائم کرو، اسے کھڑا کرو۔ دین اگر پہلے سے قائم ہے تو اسے قائم رکھنا اہل دین کی ذمہ داری ہوگی اور اگر زمین بوس ہو تو اس کا اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ اسے قائم کریں، اسے کھڑا کریں۔ اسی دین کے مطابق نظام معیشت و معاشرت استوار ہو، اسی کے مطابق نظام حکومت و سیاست قائم ہو۔ اگر یہ صورت ہے تو ”أَقِمُوا الدِّينَ“ کا تقاضا پورا ہو رہا ہے اور اگر نہیں تو جان لیجئے کہ محض تلاوت اور مدح سرائی کے لئے تو یہ دین نہیں اتارا گیا۔۔۔ دیکھئے سورۃ المائدہ میں فرمایا:

قُلْ لَأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتَابَعُوا التَّوْبَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا نَزَّلَ  
إِلَيْكُمْ مِنْ دِينِكُمْ (آیت ۶۸)

”اے نبی صاف صاف) کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔“

یہاں وہی لفظ اقامت (قائم کرنا) ہے۔ اب اس آیت میں بغرض تفسیم ”مَا أَهْلَ“

الکتاب کی جگہ ”ما اهل القرآن“ اور ”تورات و انجیل“ کی جگہ ”قرآن“ رکھ دیجئے تو بات یوں ہوگی: **مَا اَهْلُ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلٰی شٰیءٍ حَتّٰی تُقِيمُوا الْقُرْآنَ**۔ کہ اے اہل قرآن، اے حاملانِ کتاب اللہ! تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم قرآن کو قائم نہ کرو۔ قرآن حکیم اگر واقعی ضابطہ حیات ہے، جیسا کہ فی الواقع وہ ہے، تو اس کو نافذ کیا جانا چاہئے۔ قرآن نے اگر کوئی نظام دیا ہے، اور واقعی دیا ہے، تو وہ نظام قائم ہونا چاہئے۔ یہ مختصر شرح ہوئی ”اقامتِ دین“ کی جو کئی دور کی دوسری اصطلاح ہے۔

(۳) **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السُّبُوْحٰتِ** (سورۃ البقرہ اور الانفال) میں آئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا:

**وَلَتَلُوْهُنَّ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً وَّيَكُوْنُ الدِّيْنُ لِلّٰهِ (آیت ۱۹۳)**

”اور جنگ کرو ان (مشرکین) سے، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے!“

سورۃ الانفال میں بات اور آگے بڑھی۔ وہاں فرمایا:

**وَلَتَلُوْهُنَّ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً وَّيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ (آیت ۳۹)**

”مسلمانو! تم ان سے جنگ جاری رکھو جب تک فتنہ فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لئے نہ ہو جائے۔“

یہ نہ ہو کہ دین کو اجزاء میں تقسیم کر لیا جائے — مسجد میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں، روزے بھی بڑے اہتمام سے رکھے جا رہے ہوں، چلئے زکوٰۃ بھی جیسے تیسے ادا کی جا رہی ہو، حج اور عمرے بھی ذوق و شوق سے ہو رہے ہوں — لیکن ملک میں قائم نظامِ حکومت کے ڈھانچے میں دین کو کوئی دخل نہ ہو! مالی معاملات کو ہم شریعت کے تحت لانے کے لئے کسی طور پر تیار نہ ہوں اور اس سے گریز کے لئے عذرات کا انبار لگا دیں، حدود و تعزیرات اسلامی کے نفاذ کا فیصلہ اگر کر بھی لیں تو اس پر عمل در آمد کے لئے عملاً کوئی پیش رفت نہ ہو۔ سترو حجاب کے احکام کے بارے میں ہماری

سوچ یہ ہو کہ یہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے، لہذا ان کے نفاذ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس معاملے میں دین کے احکام کی پوری ڈھائی سے خلاف ورزی میں ہمارے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں اور مردوزن کی مساوات اور زندگی کے ہر میدان اور ہر شعبے میں دونوں کو شانہ بشانہ مواقع فراہم کرنا ہمارا انعرہ (Slogan) بن جائے۔ عورت کے تقدس کو ہم برسرِ بازار نیلام کریں اور اسے اشتہار و تشہیر کی جنس بنا کر رکھ دیں۔ ہمارا حال تو اتنا پتلا ہے کہ صدر ایوب کے دور میں جو عائلی قوانین بذریعہ آرڈی نینس جاری ہوئے تھے اور جن کی اکثر دفعات کو پاکستان میں موجود تمام فرقوں کے علماء نے متفقہ طور پر خلافِ اسلام قرار دیا تھا، ان کو قانونی طور پر شریعت کورٹ میں زیرِ بحث نہیں لایا جاسکتا۔ اس لئے کہ معلوم ہے کہ شریعت کورٹ خلافِ شریعت دفعات کو گوارا نہیں کرے گی اور اس طرح مغرب زدہ اور اباہیت پسند خواتین و حضرات کے ایک چھوٹے لیکن بااثر طبقے کی ناراضگی کا اندیشہ ہے، اور اس طبقے کو مطمئن رکھنا ضروری ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے زیادہ خوف ہمیں اس مغرب زدہ اور اباہیت پسند طبقے کا ہے۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ ہم نے دین کے حصے بخرے کر دیئے ہیں۔ ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے کہ ”شریعت کورٹ“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا لیکن طے کر دیا گیا کہ فلاں فلاں امور اس کورٹ کے دائرے سے باہر ہیں، حتیٰ کہ عائلی قوانین بھی اس کی حدود کار میں نہیں آتے۔ حالانکہ عائلی قوانین وہ ہیں، جن پر قرآن حکیم نے سب سے زیادہ تفصیل سے بحث کی ہے۔ اور یہ بحث ایک دو نہیں، متعدد سورتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے یہ عائلی قوانین وہ تھے جن کو انگریز تک نے نہیں چھیڑا تھا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ انگریز نے ہمارے Personal Law کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے بعد اسلام کے عائلی قوانین میں کتر بیونت کی گئی۔ ایک مارشل لاء آیا تو یہ مسخ شدہ غیر اسلامی قوانین نافذ ہوئے اور دوسرا مارشل لاء آیا تو اس نے ان کو تحفظ دیا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جو کام غیروں نے ہمارے

دورِ غلامی میں نہیں کیا، وہ اپنوں نے آزادی ملنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کیا۔  
 تو تیسری اصطلاح ہمارے سامنے سورۃ البقرۃ اور سورۃ الانفال کی دو آیات کے  
 حوالے سے یہ سامنے آئی کہ دین کُل کا کُل اللہ کے لئے ہو۔ جیسا کہ میں نے  
 عبادت کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ عبادت وہی ہوگی جو پوری زندگی پر محیط ہو، اسی  
 طرح ”اقامتِ دین“ کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ اقامت پورے اور کھل دین  
 کی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک حصہ ہمیں پسند نہیں، وہ مشکل ہے، لہذا وہ قائم نہ کریں،  
 اور جو حصہ ہمیں پسند ہے اور آسان ہے وہ قائم کر دیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول  
 کی اطاعت نہ ہوئی بلکہ یہ تو اپنے من کی چاہت ہے جس کی پیروی کی جارہی ہے!  
 (۴) غلبہ دینِ حق: اس سلسلے کی چوتھی اور عظیم ترین اصطلاح وہ ہے جو سورۃ  
 الصف میں وارد ہوئی اور جو سورۃ الصف کی مرکزی آیت کا اصل موضوع ہے۔  
 فرمایا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

(آیت ۹)

”وہی ہے (اللہ) جس نے اپنے رسول کو الھدیٰ اور دینِ حق دے کر بھیجا

تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام جنسِ دین (یا تمام نظام ہائے اطاعت) پر۔“

یہ الفاظ ایک شوٹے کے فرق کے بغیر سورۃ الصف کے علاوہ سورۃ التوبہ میں اور  
 سورۃ الفتح میں بھی آئے ہیں۔ سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف میں آخری کلمہ آیا: وَلَوْ  
 كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور سورۃ الفتح میں: وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اس طرح ان تین  
 مقامات کے حوالے سے ”اظہارِ دینِ الحقِ علی الدینِ کُلِّہِ“ کی یہ اصطلاح سامنے  
 آئی۔

آپ نے دیکھا کہ اصطلاحات ثقیل ہوتی چلی جارہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں  
 نے اصل بات کو سادہ ترین الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا۔ ان کا پھر اعادہ کر رہا  
 ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین پر خود عمل پیرا ہو اور کاربند ہو۔ دوسری یہ کہ دین کو

پھیلاؤ۔ اور تیسری بات یہ کہ دین کو قائم کرو۔ یہ ہیں تین فرائض جو ہم پر دین کی طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ کلمہ شہادت ان کے لئے بنیاد کے ہے، اور نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ اس کے چار ستون ہیں۔ ان چار ستونوں پر یہ تین منزلہ عمارت کھڑی ہے۔ اہم ترین دینی اصطلاحات کے حوالے سے ان تین منزلوں کو (۱) عبادت رب (۲) شہادت علی الناس اور (۳) اقامت دین کا نام دیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں دینی فرائض کا یہ تصور موجود ہے تو بنیادی خاکہ مکمل ہو گیا، اور اگر یہ نہیں ہے اور ذہن میں صرف نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ ہی ہیں تو پھر ستون ہی ستون ہیں، چھت تو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں۔ بغیر چھت کے جو ستون ہوتے ہیں وہ تو بطور یادگار کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کا مصرف کوئی نہیں ہوتا۔ وہ آثارِ قدیمہ ہو سکتے ہیں، اور تو کوئی مقصد پورا نہیں کرتے۔ چنانچہ فرائض دینی کی عمارت کا خاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ارکانِ اسلام یعنی کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ پر اسلام، اطاعت اور عبادت رب کی پہلی منزل استوار ہوتی ہے۔ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس اس کی دوسری منزل ہے، جبکہ تکبیر رب، اقامت دین، کُل کا کُل دین اللہ ہی کے لئے ہو اور اظہار دین الحق یعنی اس دین حق کو غالب و قائم کر دیا جائے، یہ تیسری منزل ہے۔ یہ خاکہ اپنے ذہن میں رکھئے تو آپ کے سامنے صحیح تصور آئے گا کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں؟ یا یوں کہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ مومن سے مطالبات کیا ہیں؟

## فرائض دینی کے تین لوازم

پہلا لازمہ — جماد

اب آئیے ان تین امور کی طرف جن کی حیثیت ان فرائض کے لوازم یعنی

تو وہ ہوگا کوشش اور کشاکش — غور کیجئے کہ کوشش اور محنت کئے بغیر کیا یہ منزلیں سر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں! بلکہ محض کوشش اور محنت سے بھی کام نہیں بنتا، اس لئے کہ یہاں خلا تو ہے نہیں، آپ اگر اپنے نظریات کے مطابق کوشش کر رہے ہیں تو اور لوگ بھی تو ہیں جو اپنے نظریات کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا کوشش کوشش سے نکلے گی۔ جب کوششیں باہم ٹکراتی ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے کشاکش، جسے عام طور پر ٹکٹک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کشاکش یا ٹکٹک کے لئے دینی اصطلاح ”جہاد“ ہے۔ یہ جہاد وہ پہلا لازمی عمل ہے کہ اگر یہ ہوگا تو دین کے وہ تین بنیادی تقاضے پورے ہوں گے جو ہمارے سامنے آئے، ورنہ نہیں۔ اب اس لفظ جہاد کو ان تین بنیادی تقاضوں کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے۔

(۱) جہاد مع النفس: فرائض دینی کی پہلی سطح یعنی اسلام، اطاعت، تقویٰ اور عبادت کی سطح پر جہاد کس سے ہوگا؟ اپنے نفس سے۔۔۔ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنانے کے لئے کشاکش کرنی ہوگی، کیونکہ نفس تو کسی اور طرف زور لگاتا رہتا ہے، از روئے الفاظ قرآنی: إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ وہ حرام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، آپ کو اسے روکنا ہوگا۔ اس کے اندر خواہشات کا سرکش گھوڑا ہے، آپ کو اسے لگام دینی ہوگی۔ صبح ہو گئی ہے، اذان سن لی ہے، اللہ کی پکار آگئی ہے، نفس کہتا ہے کہ سوتے رہو۔ اس سے ٹکٹک کریں گے اور اسے زیر کریں گے تو نماز کے لئے کھڑے ہو سکیں گے، ورنہ نہیں۔ اگر اس وقت ذرا سی کروٹ لی اور چادر اوپر سرکالی کہ ابھی اٹختے ہیں تو پھر اٹھنا محال ہے۔ یہی ٹکٹک و کشاکش دراصل جہاد کی پہلی اور اہم ترین سطح ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ (رواہ الترمذی)۔ ایک مرتبہ نبی اکرم سے سوال کیا گیا: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ”اے اللہ کے رسول! بہترین جہاد کونسا ہے؟“ آنحضور نے فرمایا: أَنْ تَجَاهِدَ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ”یہ کہ تو اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنانے کے لئے اس سے جہاد کرے!“ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **جَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تَجَاهِدُونَ أَعْدَاءَكُمْ**۔  
 ”اپنی خواہشاتِ نفس سے بھی اسی طرح جہاد کیا کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو!“ ایک موقع پر اس حضورؐ نے روزِ مرہ کے معمولات کو اللہ کے احکام کے تابع رکھنے کو ”جہادِ اکبر“ قرار دیا، اور یہ موقع سفرِ تبوک سے واپس کا تھا جس سے زیادہ طویل اور سخت سفر شدید گرمی کے موسم میں کوئی اور نہیں ہوا تھا۔ اس سفر سے مدینہ منورہ مراجعت ہو رہی تھی تو اس موقع پر فرمایا: **وَجَعَلْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرَ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ**۔ یعنی لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اعداء سے مقابلہ اور کشاکش ہی جہاد ہے، بلکہ یہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا دشمن ”ہمارا نفس“ ہے، اہم ترین کشاکش اس سے کرنی پڑتی ہے۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد کی پہلی سطح اور اس کا پہلا مرحلہ ”جہادِ مع النفس“ ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ کشاکش اور پونچہ آزمائی!

(۲) **جہاد بالقرآن**: دینی فرائض کے دوسرے مرحلے یعنی تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس کی سطح پر جہاد کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھئے، آپ اگر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں تو الحاد، دہریت، مادہ پرستی، فسطائیت، اشتراکیت اور دوسرے ایوان و مذاہبِ باطلہ کے مبلغین بھی تو آپ کے اسی معاشرے میں موجود ہیں۔ آپ اسلام کے قائل ہیں تو کفر کی طاقتیں بھی یہیں موجود ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی سطح پر ان سے کشاکش ہوگی۔ البتہ یہ کشاکش نظریاتی سطح پر ہوگی، خیالات کی سطح پر، فلسفہ و فکر کی سطح پر۔ اس کشاکش میں مال اور جسم و جان کی توانائیاں کھپانی پڑیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دے رہے تھے تو آپ کے مقابل ابو جہل اور اس کے ساتھی شرک اور بت پرستی کے علمبردار بن کر کھڑے تھے۔ چنانچہ باہم کشاکش ہوئی کہ نہیں؟ پس تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس کے فرائض کی ادائیگی کے لئے جب آپ محنت، کوشش اور جدوجہد کریں گے تو اگر آپ



خیال ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی کفر اور الحاد میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو یہ  
 ش ایک مغالطہ ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کو کفکش و کشاکش سے سابقہ  
 بٹا کر رہے گا۔ اب یہ مرحلہ مشکل ٹر ہو گیا۔ پہلے تو اپنے باطن میں کشاکش والا  
 حاملہ تھا، جہاد مع النفس تھا، اب دعوت و تبلیغ کے لئے، امر بالمعروف و نہی عن  
 المنکر کے لئے اور شہادت علی الناس کے لئے آپ کو جہاد کرنا ہوگا، کفکش کرنی پڑے  
 گی، باطل کے ساتھ، الحاد کے ساتھ، اباحت کے ساتھ اور تمام باطل نظریات کے  
 ساتھ۔ اس جہاد اور کشاکش میں تلوار کونسی چلے گی؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے  
 درۃ الفرقان میں رہنمائی فرمائی: **وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا** (آیت ۵۲) کہ اے نبی!  
 ان کفار سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ساتھ، زبردست جہاد! یہاں ”یہ“ کی ضمیر مجبور  
 قرآن کی طرف جارہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ میں قرآن دیا  
 ہے، یہ وہ تلوار ہے جو ہر باطل نظریے کو کاٹ پھینکنے والی ہے۔ ایک تلوار لوہے کی  
 دتی ہے، اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ قرآن بھی ایک تلوار ہے۔ علامہ اقبال  
 نے اس کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس اور شیطان کے  
 ساتھ کفکش کرنے کے لئے یہی قرآن کی تلوار کام دے گی۔

کشتن ابلیس کارے مشکل است  
 زانکہ او گم اندر اعماق دل است  
 خوشتر آں باشد مسلمان کنی  
 کشتہ شمشیر قرآن کنی

نانچہ نفس آمارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے  
 گا۔ اور شیطان سے لڑنے کے لئے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے

ابلیس کو ہلاک کرنا ایک مشکل کام ہے، اس لئے کہ وہ انسان کے دل کی گہرائیوں کے  
 اندر روپوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اسے مسلمان کر لو (اور اس کا طریقہ یہ  
 ہوگا کہ) تم شمشیر قرآنی کے ذریعے اسے گھائل کرو!

تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جسے ہم نے ”کتابِ مقدس“ بنا کر طاقوں میں رکھا چھوڑا ہے۔ تو یہ جہاد کی دوسری سطح ہوئی۔ یعنی فکری و نظریاتی سطح پر کشاکش اور تصادم۔ حق کا بول بالا کرنا، یعنی احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے لئے جان و مال سے سعی و جہد کرنا۔ اس کے لئے زبان بھی استعمال ہوگی اور قلم بھی۔ اس میں تمام ذرائع ابلاغ اور نشر و اشاعت کے تمام وسائل استعمال ہوں گے اور ان سب کے ذریعے قرآن مجید کی دعوت اور اس کے پیغام کو پھیلا یا جائے گا۔

(۳) قتال فی سبیل اللہ: تیسری سطح یعنی اللہ کے دین کو بالفعل قائم و نافذ کرنے کے مرحلے پر یہ جہاد بھی اپنی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے اور یہ جہاد کا تیسرا اور بلند ترین مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ میں باطل کے علمبرداروں کے ساتھ کشاکش اور تصادم ہوگا۔ دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں کشاکش اور تصادم باطل نظریات کے ساتھ تھا۔ لیکن جب دین کو قائم کرنے کا مرحلہ آئے گا تو یہ کشاکش اور تصادم محض باطل نظریات سے نہیں بلکہ باطل کے علمبرداروں اور باطل کی قوتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لئے کہ وہ اس راستے میں مزاحم ہوں گے۔ وہ ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہٹ جاتے ہیں، آپ آئیے اور اپنا دین قائم و نافذ کر دیجئے! اس خیال است و محال است و جنوں — ہر نظامِ باطل کے ساتھ مراعات یافتہ طبقات (Privileged Classes) کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ ایسے طبقات کے ہاتھوں میں ملک کے معاملات کی زمام کار ہوتی ہے۔ تو کیا ایسے تمام طبقات کبھی یہ گوارا کریں گے کہ آپ وہ رائج نظام جس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں، ہٹا کر دین کا نظام مکمل طور پر قائم کر دیں؟ اس بات کو وہ لوگ ٹھنڈے پیٹوں ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان کے ساتھ لازماً پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی۔ اس پنجہ آزمائی کی بھی مختلف سطحیں ہیں۔ پہلی سطح Passive Resistance یعنی صبر و مصابرت اور استقامت کی ہے۔ دوسری سطح Active Resistance یعنی اقدام کی ہے، جبکہ تیسری سطح Armed Conflict یعنی مسلح

تصادم کی ہے۔ اہل حق اگر کمزور ہوں تو جب تک طاقت حاصل نہ ہو جائے انہیں صبرِ محض کی روش پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ مار کھائیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ حکمت اسی میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسی حکمت پر عمل ہوا۔ وہاں اہل ایمان کو یہی حکم تھا کہ مصائب جھیلو، ظلم و تعدی برداشت کرو، لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ ہے صبر و مصابرت، یعنی Passive Resistance \_\_\_ لیکن جب طاقت حاصل ہو جائے تو پھر انہیں اجازت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ چنانچہ وہی مسلمان جو مکہ میں ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، مدینہ میں ان کے ہاتھ کھول دیئے گئے۔ انہیں اِذِنِ قَاتِلِ دے دیا گیا:

اِذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَايِعْتُمُوهُمْ وَظَلَمُوا وَاللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

(الحج ۳۹)

”اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف (کفار کی طرف سے) جنگ کی جارہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور بیشک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔“  
تو جان لیجئے کہ اس کشمکش کا آخری مرحلہ مسلح تصادم (Armed Conflict) ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ اور یہ جہاد کی چوٹی ہے۔ سورۃ الصف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہی چوٹی محبوبیت رب کا مقام ہے۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنَاتٌ مَّرْصُومَاتٌ ۝

(آیت ۴)

”بلاشبہ اللہ کو تو اپنے وہ بندے محبوب ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صفیں باندھ کر گویا کہ وہ سینہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔“  
اس موقع پر میں صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنَ النَّفَاقِ

”جو شخص اس حال میں مر گیا کہ نہ اس نے (اللہ کی راہ میں) جنگ کی اور

نہ اس کے دل میں اس کی تمنا پیدا ہوئی تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا۔  
چنانچہ دل میں یہ تمنا ضرور رکھنی چاہئے۔ اگر دل میں فی الواقع ایمان موجود ہے تو یہ  
آرزو ضرور رہے کہ کوئی وقت آئے کہ خالصۃً اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے ہم  
اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹا کر سرخرو ہو جائیں۔ اگر اس تمنا سے سینہ خالی ہے تو  
اس سینے میں نفاق ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
و سلم کا فتویٰ ہے۔

### دوسرا لازمہ — التزامِ جماعت

فرائضِ دینی کے ضمن میں دوسرا لازمی تقاضا التزامِ جماعت ہے۔ کون ہے جو  
بقائے ہوش و حواس یہ کہہ سکے کہ یہ کام انفرادی طور پر ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایک بھی  
سلیم العقل شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ رائے رکھتا ہو کہ ان کاموں کے لئے جماعت  
ضروری نہیں۔ اگر یہ امور یعنی عبادتِ رب، اطاعتِ رب، شہادتِ علی الناس، امر  
بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامتِ دین اور اظہارِ دین الحق علی الدین کلمہ، فرائضِ دینی  
ہیں تو ان کے لوازم کا شمار بھی فرائض میں ہوگا، کیونکہ جو شے فرض کی ادائیگی کے  
لئے لازمی ہو وہ بھی فرض ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کے لئے وضو شرط  
ہے تو وضو بھی فرض ہے کہ نہیں؟ حج یا عمرہ کی ادائیگی کے لئے احرام شرط ہے تو  
احرام بھی فرض ہوا کہ نہیں؟ لہذا التزامِ جماعت بھی لازم و واجب ہے۔ نبی اکرم  
صلی اللہ علیہ و سلم کا حکم ہے، جسے حضرت حارث الاشعریؓ نے روایت کیا ہے:

أَمْرُكُمْ بِمَغْسِبٍ، وَالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّلَاعَةِ، وَالْهَجْرَةَ، وَالْجِهَادِ  
سَبِيلَ اللَّهِ (رواہ احمد و الترمذی)

”میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: التزامِ جماعت کا، (امیر کا حکم) سننے

اور ماننے کا، ہجرت کا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا!“

ہجرت کیا ہے؟ یہ کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہ ہو۔۔۔ جیسے رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا گیا: اَتَى الْهَجْرَةَ الْفَضْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ تو آپ نے

جواب دیا: اَنْ تَهْجَرَ مَا كَرِهَ وَتَبْك (رواہ النسائی، عن عبد اللہ بن عمرو) — یہاں تک کہ وقت آئے اور گھریار اور وطن چھوڑنا پڑے تو اس کے لئے بھی انسان ہردم آمادہ رہے۔ اور یہ ہجرت کی چوٹی ہے۔ جیسے جماد کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ ہے اسی طرح ہجرت کی چوٹی اللہ کے دین کے لئے ترک وطن ہے۔ رہا جماد فی سبیل اللہ تو اس کا آغاز مجاہدہ مع النفس سے ہوتا ہے اور اس کی چوٹی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جس کا اس حدیث میں حکم دیا گیا وہ التزام جماعت ہے۔ یہ ہے التزام جماعت کی فرضیت۔

اب یہ آپ حضرات کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کسی ایسی جماعت میں شامل ہیں یا نہیں جو اقامت دین کے لئے، دین کو قائم کرنے کے لئے، دین کو برپا کرنے کے لئے اور دین کو شہادت علی الناس کی سطح پر دنیا میں پھیلانے کے لئے قائم کی گئی ہو! باقی اگر آپ نے رفاہ عامہ، خدمتِ خلق، اشاعتِ تعلیم یا اپنے پیشہ ورانہ مفادات کے تحفظات کے لئے کوئی انجمن، کوئی ادارہ یا کوئی ایسوسی ایشن بنائی ہوئی ہو تو اس پر ”جماعت“ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی رو سے تو وہ جماعت درکار ہے جس کا مقصد وحید اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ بقول علامہ اقبال۔

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے  
کیس ممکن ہے کہ ساتی نہ رہے، جام رہے

اور۔

مری زندگی کا مقصد ترے دین کی سرفرازی  
میں اسی لئے مسلمان، میں اسی لئے نمازی  
اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس جماعت کا نظام ٹھیٹھ اسلامی اصول ”سمع و طاعت“ پر ہونا چاہئے، جس کا حکم بھی مذکورہ بالا حدیث میں ”بالتسمع والاطاعت“ کے الفاظ میں آیا ہے۔ اگر آپ ایسی کسی جماعت میں شامل نہیں ہیں تو دین کے یہ تقاضے گویا آپ کے سامنے ہی نہیں ہیں۔

## تیسرا لازمہ — بیعت

دینی فرائض کے لوازم میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کا جو نظام قائم ہو وہ بیعت پر مبنی ہو۔ یہ وہ واحد نظام ہے جو ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے سے ملتا ہے۔ کتاب و سنت میں مجھے اس کے سوا کوئی دوسرا نظام نہیں ملا اور نہ کوئی مجھے آج تک بتا سکا۔ اب یہ بات سمجھئے کہ یہ بیعت ہے کیا! ایک شخص سے ان فرائض کی ادائیگی کے ارادے سے شخص تعلق قائم کرنا، اس کے ہاتھ پر ان فرائض کی انجام دہی کے لئے قول و قرار کرنا بیعت ہے۔ میں نے شروع ہی میں لفظ ”مرید“ کی وضاحت کر دی تھی کہ مرید وہ ہے جو ارادہ کرے۔ یعنی ایسا فرد جو اپنی اصلاح کے ارادے سے کسی کے ہاتھ پر قول و قرار کے لئے بیعت کر لے۔ چنانچہ شخص اصلاح اور تزکیہ نفس کے لئے بیعت کی جاتی ہے۔ اور یہ بیعت اسلام، عبادت، تقویٰ اور عبادت کے تقاضوں اور مطالبوں پر پورا اترنے کے لئے کسی مرد صالح کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ یہ بیعت ”بیعتِ توبہ“ یا ”بیعتِ ارشاد و تزکیہ“ کہلاتی ہے۔ اور جب اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت، دین کی نشرو اشاعت، شہادت علی الناس اور اقامتِ دین جیسے عظیم فرائض کی ادائیگی اور اس کے لئے سمع و طاعت پر مبنی جماعت کے قیام اور ہجرت و جہاد کا مرحلہ درپیش ہو تو اس کے لئے بھی ایسے شخص کے ہاتھ پر جو اس کام کا عزم لے کر اٹھا ہو، شخص بیعت ہوگی اور یہ بیعت ”بیعتِ جہاد“ کہلائے گی۔

ماضی قریب میں بزرگ عظیم پاک و ہند میں برپا ہونے والی سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ کی عظیم تحریک ”تحریکِ شہیدین“ کے نام سے موسوم ہوئی اس لئے کہ اس میں دوسری اہم شخصیت امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی شامل تھی۔ ورنہ نہ معلوم کتنے ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے۔

بنا کردند خوش رے بخاک و خون غلیدن

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

اس تحریک کے نتیجے میں اس بزرگ عظیم پاک و ہند میں خالصتہً اللہ جماد و قتال ہوا۔ اس میں سید احمد شہید بریلوی نے پہلے بیعت ارشاد لی اور پھر بیعت جماد۔۔۔ اور اس بیعت جماد کی وہ آخری منزل بھی آئی کہ سیف بدست میدانِ جنگ میں قتال کیا اور سکھوں کی فوج کے ہاتھوں گردن کٹوا کر بارگاہِ رب العزت میں سرخرو ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۴﴾ (البقرہ: ۱۵۴)

اس تحریک کا نظم مخصوص بیعت پر قائم ہوا تھا، لیکن آج یہ لفظ گالی بن گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو لفظ مرید بھی بدنام ہو گیا۔ اور پھر اللہ جانے ہم نے دین کی کتنی عظیم اصطلاحات کو بدنام کر چھوڑا ہے۔ لیکن اس وجہ سے ہم دین کی کسی بھی اصطلاح کو ان شاء اللہ ترک نہیں کریں گے بلکہ ان میں اصل روح پھونکنے کی ہر امکانی کوشش کریں گے۔

اب ذرا مزید توجہ کیجئے۔ ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہو گا کہ ہمارے ہاں دینی حلقوں میں یہ تصور عام رہا اور آج بھی ہے کہ اگر کسی کی بیعت کا حلقہ تمہاری گردن میں نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ دین کا صحیح تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ:

”اگر بیعتِ جماد کے لئے آپ کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں تو دین

کے وہ تقاضے اور فرائض، جو میں نے قرآن مجید اور احادیث شریف

سے آپ کے سامنے قدرے تفصیل سے بیان کئے ہیں، وہ پورے

نہیں ہو سکتے۔“

البتہ یہ ضرور ہے کہ اب چونکہ کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں، لہذا آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ”مَنْ أَنْصَلُونِي إِلَيَّ اللَّهُ“ کی صدا لگا رہا ہو اور ان فرائض کی انجام دہی کے لئے کوشاں ہو اور آگے بڑھ رہا ہو! اور اگر آپ کا

دل اس پر مطمئن ہو جائے، اس کے فہم اور اس کے خلوص و اخلاص پر آپ کو اعتماد پیدا ہو تو اس کے ساتھ وابستہ اور منسلک ہو جائے! — میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرح اگر ہزار قافلے بھی بن جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ منزل ایک ہو۔ اگر دینی فرائض کا تصور صحیح ہو، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ بیک وقت کئی قافلے اس تصور کو لے کر رواں دواں ہو جائیں۔ منزل تو سب کی ایک ہی ہوگی۔ میرے نزدیک سب کا ایک ہونا اب لازم نہیں ہے۔ سب کا ایک ہونا صرف رسول کے ساتھ ہونا لازم ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایام حج میں جب منیٰ سے وقوفِ عرفات کے لئے سفر ہوتا ہے، تو بیک وقت ہزاروں قافلے چلتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا جھنڈا الگ ہوتا ہے۔ لیکن سب کا رخ کس طرف ہے؟ عرفات کی طرف! منزل تو سب کی ایک ہی ہے۔ چنانچہ اگر ہزاروں قافلے بھی ہو گئے تو کوئی حرج نہیں۔ تاکہ اگر کوئی شریکِ سفر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے قافلے والوں میں فرائضِ دینی کا صحیح اور مکمل تصور ہی مفقود ہے، یا یہ کہ جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کا رخ منزل کی طرف صحیح طور پر نہیں ہے، بلکہ شاہراہ کو چھوڑ کر کوئی Short Cut اختیار کر لیا گیا ہے، جس کی بدولت منزل مقصود تک جلد پہنچنے کے بجائے یہ قافلہ اس شارٹ کٹ کی بھول بھلیوں اور راستے کے جھاڑ جھنکاڑ میں ایسا الجھ کر رہ گیا ہے کہ منزل کو جانے والی اصل شاہراہ سے تعلق ہی منقطع ہو گیا ہے، یا کسی قائد پر دل نہیں ٹھک رہا ہے کہ یہ صحیح شخص نہیں ہے، یا مخلص نہیں ہے، محض دوکاندار ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی اور کو تلاش کرے۔ — یا پھر خود کھڑے ہو کر پکارے کہ **مَنْ أَنْصَلُونِي إِلَى اللَّهِ**، خود قافلہ بنانے کی سعی کرے۔ یہاں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، تمام حقوق کسی کے نام محفوظ نہیں ہیں کہ کوئی دوسرا قافلہ نہیں بنا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نیت صاف ہو، دل میں خلوص ہو، دوسروں سے الجھنے سے اجتناب ہو، سامنے منزلِ اقامتِ دین کی ہو تو خواہ سینکڑوں قافلے ہوں یا ہزاروں،



کوئی مضائقہ نہیں۔ خلوص و اخلاص ہو گا تو وقت آنے پر وہ جڑتے چلے جائیں گے۔ (They will clamp together) اور اگر چلنا ہی نہیں ہے تو تم بھی کھڑے ہو، ہم بھی کھڑے ہیں سڑ زمیں جبنہ نہ جبنہ گل محمد۔ یہ ہے طرز عمل جو ہمارا آج ہے۔ اور بعض لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ نہ چلیں گے نہ چلنے دیں گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ تو ہر طرز عمل آپ کو مل جائے گا۔ لیکن جسے بھی چلنا ہے اور اس کی چلنے کی نیت ہے تو وہ کوئی قافلہ تلاش کرے اور جس پر بھی دل مطمئن ہو جائے، اس میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، دائیں بائیں دیکھتا رہے، اس سے بہتر قافلہ ملے تو اس کی طرف لپیک کئے۔ آخر دنیوی معاملات میں بھی ہمارا طرز عمل یہی ہوتا ہے تاکہ سڑ ”ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں!“ — یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اب میں بساط خانے کی دکان (جنرل سٹور) شروع کر چکا ہوں، کیا کروں؟ اس میں تو منافع نہیں ہے، ہے تو بہت قلیل، اصل میں مجھے فلاں کاروبار کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ آپ بساط خانے کے کام کی بساط لپیٹیں گے اور کوئی دوسرا کام شروع کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟

## حرفِ آخر

حضرات! یہ چھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ان سے ہمارے سامنے اپنے دینی فرائض کا ایک صحیح اور جامع خاکہ آگیا ہے، اس کے علاوہ باقی تو ساری تفصیل ہیں۔ اگر خاکہ نامکمل رہے گا تو آپ کا فرائض دینی کا تصور نامکمل رہے گا، لہذا ایک مکمل اور جامع خاکہ سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اصل ضرورت قدم بڑھانے کی ہے۔ اگر آپ نے منزل مقصود کے تعین کے ساتھ سفر کا آغاز کر لیا تو اگر منزل تک نہ بھی پہنچ سکے تب بھی آپ کامیاب ہیں۔ ہمارے دین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ جو شخص گھر سے ہجرت کی نیت سے مدینہ کے لئے نکلا تو خواہ وہ مدینہ پہنچ سکا یا نہیں پہنچ سکا، وہ مہاجر ہے۔

سورۃ النساء میں فرمایا گیا کہ جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل آیا اور راستہ ہی میں اسے موت آگئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (آیت نمبر ۱۰۰)

لہذا جو آغاز کر دے اس کا اجر محفوظ ہے۔ رہا یہ سوال کہ کہاں تک پہنچ پائیں گے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ شہیدین کی تحریک اگرچہ دنیوی اعتبار سے ناکام ہوگئی اور وہ خاک و خون میں لوٹ گئے، لیکن وہ اللہ کے ہاں فلاح پائیں گے۔ اگر دنیوی لحاظ سے بھی یہ تحریک کامیاب ہوگئی ہوتی تو پورا برعظیم پاک و ہند دارالاسلام بن سکتا تھا۔ ورنہ یہ علاقہ جو پاکستان کہلاتا ہے ضرور دارالاسلام بن جاتا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس تحریک کی ناکامی میں اصل ہاتھ کن لوگوں کا تھا؟ سکموں کی تلواریں اسے ختم نہیں کر سکتی تھیں۔ خود اپنوں کی غداری نے اسے ختم کیا تھا۔

ایک بندہ مومن کا اصل نصب العین رضائے الہی کا حصول اور محاسبہ اخروی میں کامیابی ہے۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے قرآن حکیم اور سنت رسول علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ہمیں ہمارے دینی فرائض کا ایک مکمل خاکہ ملتا ہے، جو تین جامع ترین دینی اصطلاحات عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کے حوالے سے ہمارے سامنے آگیا ہے۔ اس کے لوازم بھی کسی قدر تفصیل سے بیان ہو گئے ہیں جن میں اہم ترین لوازم جمادی سمیل اللہ، التزام جماعت اور بیعت سب و طاعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دینی فرائض کی بجا آوری کا مصمم ارادہ دلوں میں پیدا کریں اور پھر اس ارادے کی تکمیل کے لئے پیش قدمی کریں۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○○

- ☆ تنظیم اسلامی کیوں قائم ہوئی اور اس کے قیام کی اولین کوشش کب ہوئی؟
- ☆ اس کی ”قرارداد تاسیس“ قافلہ جماعت اسلامی سے جدا ہونے والے کن ”اکابرین“ کے اتفاق رائے سے منظور ہوئی تھی؟
- ☆ اولین کوشش میں ناکامی کے بعد دوبارہ اس کے قیام کا عزم کس نے کیا اور اس کا باقاعدہ قیام کب عمل میں آیا؟
- ☆ تنظیم اسلامی کے اساسی نظریات کیا ہیں اور اس کے پیش نظر اہداف و مقاصد کون کون سے ہیں؟
- ☆ امت مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ کے پس منظر میں تنظیم اسلامی کا محل و مقام کیا ہے؟

☆ تنظیم اسلامی کے بانی کا فکری و تحریری پس منظر کیا ہے؟

ان تمام سوالات کے تفصیلی جواب کیلئے

تنظیم اسلامی کے درج ذیل تین اساسی کتابچوں کا مطالعہ ناگزیر ہے

----- (۳) -----

سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 3

تعارف

تنظیم اسلامی

صفحات ۸۸، قیمت - ۱۰/- عمدہ طباعت

----- ملنے کے پتے -----

● مرکزی دفتر تنظیم اسلامی، ۶۷-۱ اے، علامہ

اقبال روڈ، مخزمی شاہو، لاہور

● دفتر تنظیم اسلامی لاہور شہر، ۴-۱ اے، مزنگ

روڈ، نزد فیملی ہسپتال

● قرآن اکیڈمی، ۳۶-۲ کے ماڈل ٹاؤن، لاہور

----- (۱) -----

سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 1

عزم تنظیم

(سابقہ ”سرا گلندیم“)

عمدہ طباعت، صفحات ۷۲، قیمت - ۱۰/-

----- (۲) -----

سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 2

تنظیم اسلامی کا

تاریخی پس منظر

صفحات ۳۸، عمدہ طباعت، قیمت - ۱۰/-

# تَنْظِيرُ اسْلَامِيٍّ

## کی اسامی دعوت

تجدیدِ عہد

توبہ

تجدیدِ ایمان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ  
الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ

(التَّوْبَةُ : ۱۳۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

(التَّوْبَةُ : ۸)

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ  
بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

(الْمَائِدَةُ : ۷)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

(الْبَقَرَةُ : ۴۰)